



جاوید میانداد اور بندولا ورناپورا راولپنڈی ٹیسٹ کے مہمان خصوصی ہوں گے

لاہور، 8 دسمبر 2019ء :

پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے سابق کپتان بندولا ورناپورا اور قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جاوید میانداد کو بطور مہمان خصوصی راولپنڈی ٹیسٹ میں شرکت کی دعوت دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ دونوں سابق کپتانوں کی کرکٹ کے لیے خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 11 سے 15 دسمبر تک پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔

ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا میچ مارچ 1982 میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا۔ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت جاوید میانداد اور سری لنکا کرکٹ ٹیم کی قیادت بندولا ورناپورا نے کی تھی۔ میچ میں پاکستان نے 204 رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔ میزبان ٹیم نے میچ کی پہلی اننگز میں 396 اور دوسری اننگز میں 400 کے نقصان پر 301 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کر دی تھی۔ مہمان ٹیم پہلی اننگز میں 344 اور دوسری اننگز میں 149 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔

جاوید میانداد اور بندولا ورناپورا دونوں ممالک کی ٹیموں کے درمیان 11 دسمبر سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ سے قبل 10 دسمبر کو سیریز کی ٹرافی کے فوٹو شوٹ میں شرکت کریں گے۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈول میچ کے پہلے روز کھانے کے وقفے کے دوران دونوں سابق کرکٹرز کی خدمات کے اعتراف میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔

چیرمین پی سی بی احسان مانی:

چیرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا دعوت نامہ قبول کرنے پر وہ دونوں سابق کپتانوں کے مشکور ہیں جو اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت نکال کر پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کرکٹ اور اس کے مداحوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔

احسان مانی نے کہا کہ 11 دسمبر قومی کرکٹ کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے اور وہ جاوید میانداد اور بندولا ورنہ پورا کے ساتھ مل کر اس کا جشن منائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ اٹیکونز ہیں جن کی کرکٹ کے لیے خدمات کا کوئی ثانی نہیں۔

چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سابق کرکٹرز کی خدمات کا معترف ہے اور یہ اس کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی سابق کرکٹرز کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھاتا رہے گا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk

@therealpcb

@PakistanCricketBoard

@PakistanCricketOfficial

@therealpcb

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium

Ferozpur Road, Lahore

Pakistan, PO Box 54000

T: +92 42 3571 7231-4

